



### اونٹیریو کی حکومت نے تیسری صوبائی ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا ہے

#### 8 اپریل سے گھر پر ٹھہرنے کا حکم پورے صوبے میں نافذ العمل ہو گا

برامپٹن، آن (7 اپریل 2021) – آج اونٹیریو کی حکومت نے ایمرجینسی منیجمنٹ اینڈ سول پروٹیکشن ایکٹ (EMCPA) کے تحت تیسری ہنگامی حالت کے فوری نفاذ کا اعلان کر دیا ہے اور پورے صوبے کے رہائشیوں کے لیے گھر پر ٹھہرنا لازمی قرار دے گیا گیا ہے جو مورخہ 8 اپریل 2021 سے نافذ العمل ہو گا اور یہ حکم نامہ اونٹیریو بشمول ریجن آف پیل میں کم از کم چار ہفتوں کے لیے لاگو رہے گا۔

گھر پر رہنے کے حکم نامے کے مطابق ہر شخص کو گھر پر ہی ٹھہرنا پڑے گا ماسوائے انتہائی ضروری معاملات کے لیے مثلاً گروسری اسٹور یا فارمیسی پر جانا، نگہداشت صحت کی سروسز تک رسائی، ورزش کے لیے گھر سے باہر نکلنا یا دیگر کسی انتہائی ضروری کام کے لیے باہر جانے کی اجازت ہو گی۔

اس حکم نامے اور پبلک ہیلتھ کی دیگر پابندیوں کا مقصد لوگوں کی نقل و حرکت کو محدود کرنا ہے تاکہ اپنے گھرانے کے باہر کے افراد کے ساتھ لوگوں کے روزانہ کے روابط میں کمی لائی جا سکے۔ گھر سے باہر نکلنے کو ضروری سفروں تک محدود کرنے کے علاوہ، آجرین کو بھی یہ بات لازمی طور پر یقینی بنانی چاہیے کہ اگر کوئی ملازم اپنے گھر سے کام کر سکتا ہو، تو اسے گھر سے کام کرنے کی اجازت دی جائے۔

#### پرچون

اس کے علاوہ، صوبہ غیر ضروری پرچون فروشی کے شعبے میں بھی صوبہ بھر میں ہنگامی حالات کے پھوٹے کو مدنظر رکھتے ہوئے صحت عامہ اور جانے کار کے اقدامات میں بھی سختی لا رہا ہے۔ ان اقدامات میں درج ذیل شامل ہیں، مگر ان تک محدود نہیں:

- غیر ضروری اشیاء کے اکثر پرچون فروشوں کو صبح 7 تا شام 8 بجے کے درمیان صرف کرب سائیڈ پک اپ اور بذریعہ اپوائنٹمنٹ ڈیلیوری تک محدود کرنا جبکہ وہ اپنے باقاعدہ گاہکوں کو ڈیلیوری بھیجنے کا کام صبح 6 تا رات 9 بجے تک کر سکتے ہیں؛ جبکہ دیگر پابندیاں بھی نافذ العمل رہیں گی؛
- شاپنگ مالز تک رسائی کی محدود اور مخصوص مقاصد کے لیے اجازت ہو گی، بشمول شاپنگ مال کے اندر سے صرف ایک نامزد کردہ مقام اور شاپنگ مال کے باہر نامزد کردہ کسی بھی تعداد میں مقامات سے بذریعہ اپوائنٹمنٹ کرب سائیڈ پک اپ اور ڈیلیوری کی اجازت ہو گی، جبکہ دیگر پابندیوں پر بھی عمل درآمد کرنا لازمی ہو گا؛
- ڈسکاؤنٹ اور بگ باکس اسٹوروں میں جا کر پرچون خریداری، پالتو جانوروں کی دیکھ بھال کا سامان، گھریلو صفائی ستھرائی کا سامان، فارماسیوٹیکل کی اشیاء، صحت کی دیکھ بھال کی اشیاء اور ذاتی نگہداشت کے سامان پر پابندی عائد ہو گی؛
- مندرجہ ذیل اسٹورز کو صرف اپوائنٹمنٹ کے ذریعے ذاتی طور پر خوردہ فروشی کے کام کی اجازت ہو گی اور یہ اجازت 25 فیصد گنجائش کی حد سے مشروط ہو گی جبکہ صبح 7 سے شام 8 بجے کے درمیان اجازت دیئے گئے گھنٹوں کی پابندی بھی لازمی ہو گی اور باقاعدہ خریداروں کو سامان کی ڈیلیوری صبح 6 بجے سے 9 بجے کے درمیان کی جا سکے گی:
  - سیفٹی سپلائی سٹورز؛
  - ایسے کاروبار جو بنیادی طور پر معاون ڈیوائسز کے آلات و سامان، نقل و حرکت کی ڈیوائسز کے آلات و سامان یا میڈیکل ڈیوائسز کے آلات و سامان کی مرمت یا فروخت کا کام کرتے ہیں؛
  - کرایہ اور لیز کا کام کرنے والی سروسز بشمول آٹو موبائل، کمرشل اور ہلکی پھلکی صنعتی مشینری اور اس طرح کے آلات کو کرایہ پر دینا؛
  - آپٹیکل اسٹور جو عوام کو نسخہ کے مطابق چشمے وغیرہ فروخت کرتے ہیں؛
  - ایسے کاروبار جو موٹر وہیکلز، کشتیاں یا پانی میں چلنے والی دیگر چیزیں فروخت کرتے ہیں؛
  - گاڑیوں اور آلات کی مرمت کے کاروبار اور ضروری بحالی اور گاڑیوں و دیگر متعلقہ سامان کو کرایہ پر دینے کی سروسز؛ اور
  - ایسے ریٹیل اسٹور جو ٹیلی کمیونیکیشنز پرووائڈرز یا سروس کے تحت چلتے ہوں، جو عوام کو سیل فون کی خریداری یا مرمتی یا تکنیکی معاونت کے لیے ہی اندر آنے کی اجازت دے سکتے ہیں۔
- ایسے آؤٹ ڈور گارڈن کے مراکز اور پودوں کی نرسریوں اور ان ڈور گرین ہاؤسز جو عوام کو فروخت کا کاروبار کرتے ہوں، کو 25 فیصد گنجائش کی حد کے ساتھ کام کرنے اور صبح 7 سے شام 8 بجے تک کے اوقات کار کی پابندی کے ساتھ کام کرنے کی اجازت ہو گی۔

صوبے کی جانب سے تیسری ہنگامی حالت کے اعلان کے بارے میں مزید یہاں پر پڑھیں۔

### سٹی کی سروسز اور سہولیات

#### سٹی ہال اور کاروباری سہولت گاہیں

سٹی ہال اور کاروباری سہولت گاہیں بالمشافہ سروسز کے لیے صرف بذریعہ اپوائنٹمنٹ کھلی رہیں گی۔ بغیر اپوائنٹمنٹ جانے کی اجازت نہیں ہو گی۔ اپوائنٹمنٹ بک کرنے کے لیے ملاحظہ کریں [www.brampton.ca/skiptheline](http://www.brampton.ca/skiptheline)۔

#### سٹی کے تفریحی مراکز

سٹی آف برامپٹن کی تمام تفریحی سہولت گاہیں عوام کے لیے بدستور بند رہیں گی اور ان ڈور پروگرام بھی تاحکم ثانی بند رہیں گے۔

#### ورچوئل پروگرامز

##### ورچوئل فنٹیس

رہائشیوں کو انسٹرکٹر کی نگرانی میں چلائی جانے والی ورچوئل فنٹیس کلاسوں میں شمولیت کی دعوت دی جاتی ہے، جو 30 منٹ کی مفت براہ راست کلاسوں پر مشتمل ہوں گی۔

##### +55 ورکشاپس

برامپٹن کے ایسے رہائشی جن کی عمر 55 سال یا اس سے زیادہ ہو، وہ اپنے گھر کے پرسکون ماحول سے مفت ورچوئل ورکشاپس کے لیے رجسٹر ہو سکتے ہیں۔ شرکاء کو ایک محفوظ اور منظم ماحول میں سماجی میل جول بڑھانے، نئی دوستیاں بنانے اور آن لائن روابط قائم کرنے کا موقع ملے گا۔

##### مشمول ورچوئل سرگرمیاں اور ورکشاپس

یہ سلسلہ معذوریوں اور استثنائی حالات کے حامل شرکاء کے لیے دلچسپ سرگرمیوں میں شامل ہونے، کچھ نیا سیکھنے اور اپنے ہم عمر افراد کے ساتھ دیرپا دوستی پیدا کرنے کا ایک نادر موقع ہے۔

ورچوئل پروگراموں کی پیشکشوں، بشمول رجسٹر ہونے کے طریقے کی تفصیلات کے بارے میں مزید معلومات [www.brampton.ca/recreation](http://www.brampton.ca/recreation) سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔

#### گھر پر تفریح

آن لائن آرٹس اور کرافٹس ٹیوٹوریلز کے ذریعے گھر پر رہتے ہوئے بھی فعال اور وابستہ رہیں، رسائی 24/7 دستیاب ہے! اوریکیمی برٹس بنانے کا طریقہ سیکھیں، اپنی کیلیگرافی کی مہارتوں میں نکھار پیدا کریں اور مزید بہت کچھ گھر میں رہتے ہوئے وسیع اقسام کی سرگرمیوں تک رسائی یہاں سے حاصل کریں، جو برامپٹن ریکریٹیشن نے بہت محبت سے تیار کی ہیں۔

#### مینڈیٹری فیس کورنگز

مینڈیٹری فیس کورنگز ہائی لاء کے مطابق، برامپٹن میں موجود تمام اندرونی عوامی مقامات کے اندر نان میڈیکل ماسک یا چہرہ ڈھانپنے کی دوسری چیزوں کا استعمال لازمی ہے۔ عوامی اداروں اور کاروباروں پر لازم ہے کہ وہ اپنے زیر کنٹرول اندرونی عوامی مقامات میں ماسک یا چہرہ ڈھانپنے کی دوسری اشیاء کے استعمال کو یقینی بنائیں۔

ضمنی قانون میں کچھ افراد کو استثنائی بھی حاصل ہے، بشمول وہ لوگ جو طبی وجوہات کی بناء پر ماسک یا چہرے کو ڈھانپنے کے لیے دیگر کوئی بھی چیز نہیں پہن سکتے ہیں؛ دو سال سے کم عمر بچے؛ ہنگامی احکامات کے تحت سانس پھولنے والی سرگرمیوں میں مصروف افراد۔ مزید معلومات کے لیے، ملاحظہ کریں: [www.brampton.ca/masks](http://www.brampton.ca/masks)

رہائشی اور کاروباری ادارے 311 پر کال کر سکتے ہیں، ملاحظہ کریں [www.311brampton.ca](http://www.311brampton.ca) یا مزید معلومات اور سروس کی گزارشات کے لیے 311 موبائل ایپ استعمال کریں۔

### لنکس

مزید جانیں:

- سٹی آف برامپٹن کووڈ-19 پروگرامنگ اور سروس اپ ڈیٹس
- سٹی آف برامپٹن - کیا بند کر دیا گیا ہے اور کیا کھلا ہے
- کووڈ-19 کی علامات
- کووڈ-19 کی ویکسین
- برامپٹن میں ٹیسٹنگ کی سہولت
- خود کو آنسو لٹ کیسے کریں
- کووڈ-19 کے دوران کاروباری اداروں اور کام کی جگہوں کو کیسے محفوظ رکھیں
- پیل میں کووڈ-19 کے کیسز

30--

### میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال  
کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ  
اسٹریٹیجک کمیونیکیشن  
سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)